

برائے فوری اجراء

بیلوین واپس آ گیا ہے! اس سال برامپٹن میں محتاط اور محفوظ رہیں

برامپٹن، آن (13 اکتوبر 2021) – بیلوین بالکل ہمارے سر پر آن پہنچا ہے اور ہر کوئی ٹرک آر ٹریڈنگ اور کچھ خوفناک تفریح کے ایک محفوظ دورانیے سے اس سال دوبارہ لطف اندوز ہونے کے لیے پرجوش ہے۔

رہائشیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس سال جشن مناتے وقت صحت اور حفاظت کو اپنی اولین ترجیح بنائیں۔ ٹرک آر ٹریڈ کا تقاضہ ہے، کہ:

- اگر آپ ٹھیک نہیں ہیں، تو گھر پر رہیں۔
- جہاں تک ممکن ہو ٹرک آر ٹریڈ بیرونی مقامات پر منائیں۔
- تخلیقی بنیں اور کسٹومز میں چہرے کو ڈھانپنے کی جگہ رکھیں! یاد رکھیں کہ کسٹوم ماسک چہرے کو ڈھانپنے کا متبادل نہیں ہے۔ کسٹوم ماسک کو نان میڈیکل ماسک یا فیس کورنگز کے اوپر نہیں پہننا چاہیے کیونکہ اگر کسٹوم ماسک سانس لینے میں دشواری پیدا کرتا ہے، تو یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔
- گھروں کی دہلیزوں پر بجوم نہ بنائیں۔ بلکہ اپنی باری پر جائیں۔
- تحائف دینے والوں کے ساتھ بات چیت کو مختصر رکھیں۔
- اچھی حفظان صحت پر عمل کریں اور کثرت سے ہینڈ سینٹائزر کا استعمال کریں۔

اگر آپ تحائف دے رہے ہیں:

- اگر طبیعت خراب ہو، تو بیلوین کے تہواروں میں حصہ نہ لیں۔
- ٹرک آر ٹریڈز کرنے والوں کے ساتھ تعاملات کو مختصر رکھیں۔
- اگر جسمانی دوری برقرار نہ رکھی جا سکتی ہو، تو چہرے کو ڈھانپنے پر غور کریں۔
- کسٹوم کے ایک حصے کے طور پر چہرے کو ڈھانپنے پر غور کریں۔
- صرف خریدے ہوئے اور پیک شدہ تحائف ہی دیں۔
- ٹرک آر ٹریڈ کرنے والوں کو ان کے تحائف دینے کے لیے گانے یا چیخنے کے لیے نہ کہیں۔
- صابن اور پانی کا استعمال کرتے ہوئے یا ہینڈ سینٹائزر سے شام کو اپنے ہاتھوں کو کثرت سے صاف کریں۔

بیلوین سیفٹی

چوکس رہیں، آگ کے خطرات سے محفوظ رہنے کی کوشش کریں اور بیلوین میں گم ہو جاتے وقت چوٹوں سے محتاط رہیں۔

کسٹوم کا انتخاب کرتے وقت:

- الجھنے اور گرنے سے بچنے کے لیے اپنے کسٹومز کو مختصر رکھیں۔
- آگ نہ پکڑنے والے کسٹومز اور لوازمات کا انتخاب کریں۔
- اچھی طرح روشن رہیں۔ چمکدار رنگوں کے ملبوسات چینی جو ڈرائیوروں کو واضح طور پر نظر آتے ہوں۔

سجاوٹ کرتے وقت:

- خشک پھول، کارنسٹاکس اور کاغذ بہت آسانی سے آگ پکڑ سکتے ہیں۔ اپنی سجاوٹوں کو کھلے شعلوں اور گرمی کے ذرائع سے دور رکھیں۔
- سجاوٹوں اور رکاوٹوں وغیرہ سے باہر نکلنے کے راستوں کو صاف رکھیں۔
- اپنی جیک او لائٹیں کو آگ لگانے والی موم بتیوں کی بجائے بیٹری سے چلنے والی موم بتیوں یا چمکتی ہوئی چھڑیوں کے ساتھ روشن کریں۔
- الجھنے کے خطرات کو ختم کریں اور ٹرک یا ٹریڈز کو محفوظ رکھنے کے لیے بیرونی روشنیاں جلا کر رکھیں۔
- اس بات کو یقینی بنائیں کہ گھر میں تمام سموک الارم ٹھیک طریقے سے کام کر رہے ہوں۔

تحائف تک رسائی

برامپٹن مختلف کمیونٹیز پر مشتمل ایک خوبصورت گلدستے کی مانند ہے اور سٹی آف برامپٹن معذور افراد کے لیے رسائی کو بڑھانے کے مواقع اور اپنی متنوع کمیونٹی میں سب سے تعلق رکھنے کے ایک مضبوط احساس کی نشاندہی کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اس سال کے اوائل میں برامپٹن سٹی کونسل نے اپنے سائن بانی لاء میں ایک ترمیم کی منظوری دی تھی تاکہ ٹرک آر ٹریٹنگ کے لیے رکاوٹوں سے پاک اور قابل رسائی ذرائع فراہم کیے جا سکیں۔ برامپٹن کے گھر مالکان کا اپنے سامنے کے لان پر تحفے تک رسائی کا نشان رکھنے کا خیر مقدم کیا جاتا ہے تاکہ رہائشیوں کو بتایا جا سکے کہ اگر کسی ٹرک آر ٹریٹر کرنے والے شخص کو کوئی معذوری ہے، تو وہ ان کے گھر پر رکاوٹوں کے بغیر ہیلوین سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔

تحائف کے لیے قابل رسائی گھر کے مالکان کے لیے مندرجہ ذیل تجاویز بھی ہیں:

- اس بات کو یقینی بنائیں کہ ٹرک آر ٹریٹنگ کی جگہ کا راستہ اچھی طرح روشن ہونا چاہیے۔
- ڈرائیو ویز اور راستوں کو صاف رکھیں
- کاربن ڈرائیو وے سے باہر منتقل کر دیں تاکہ ٹرک آر ٹریٹنگ کرنے والوں کے لیے رسائی کو بہتر بنایا جا سکے
- ڈرائیو وے کے آخر میں، گیراج کے باہر یا گاڑی کے ٹرنک کے پیچھے ایک ٹرک آر ٹریٹنگ اسٹیشن بنائیں۔
- اسٹروپ لائٹس، اونچی آوازوں یا اچانک اونچی ہو جانے والی آوازوں کے استعمال سے گریز کریں۔
- اپنے پالتو جانوروں کو محفوظ رکھیں

تحائف تک رسائی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے www.treataccessibly.com ملاحظہ کریں۔ سٹی میں رسائی کے حوالے سے مزید معلومات کے لیے سٹی کی ویب سائٹ www.brampton.ca ملاحظہ کریں۔

فرائٹ نائٹس

مورخہ 16، 22، 23 اور 29 اکتوبر کو شام 5 تا 8 بجے تک منتخب شدہ برامپٹن ریکریٹیشن سنٹرز پر موقع پر بالمشافہ فرائٹ نائٹس دوبارہ دستیاب ہوں گی۔ رجسٹریشن درکار ہے مگر داخلہ مفت ہے۔ پورے خاندان کی شاندار تفریح کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، بشمول:

- سٹیوکی فیملی مووی نائٹ*
- ویگن رائیڈز*
- زومبی زومیا™
- اینربرش ٹیٹوز
- دستکاریاں
- تفریح
- تفریح

*منتخب شدہ مقامات

برامپٹن ریکریٹیشن کے کچھ منتخب شدہ مراکز میں 13، 20 اور 29 اکتوبر کو سٹیوکی سوم اور سکیتس کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ فرائٹ نائٹس، سٹیوکی سوم اور سکیتس کے لیے رجسٹر ہونے کے لیے [یہاں کلک کریں](#)۔

پمکن پارٹی

دوبارہ واپس اور پہلے سے کہیں بہتر - پمکن پارٹی ایک اور دن کے لیے ہیلوین کی جان ہو گی! اپنا کسٹیم پہنیں اور 1 نومبر کو شام 4 تا 8 بجے تک اپنے پمکن کو بس کین ویلینز اسکوائر پر لے کر آجائیں۔ 'اینویرو ڈرم' کی جانب سے براہ راست تفریح سے لطف اندوز ہوں اور پاپ کارن اور شاندار ایبل سائیڈز سے لطف کو دوبالا کریں۔ تقریب کے بعد پمکن کو قدرت کھاد بنایا جائے گا۔

تمام تفریح کرتے وقت محفوظ رہیں۔ جہاں پر جسمانی فاصلہ ممکن نہ ہو، تو ماسک پہننے کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ پمکن پارٹی کو سونس چیلنج کی فراخ دلانہ اسپانسرشپ حاصل ہے۔ تفصیلات کے لیے www.brampton.ca/recreation ملاحظہ کریں۔

کرافٹی کسٹیم کانسٹیٹ

آپ کو 2021 ہیلوین کرافٹی کسٹیم کانسٹیٹ میں شامل ہونے کی دعوت دی جاتی ہے، جس کا انعقاد میئر پیٹرک براؤن اور برامپٹن سٹی کونسل کے ممبران کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ اپنا اختراعی اور پُر مزاح پہلو دکھائیں - کسٹیم پہنے ہوئے اپنی ایک تصویر کو [events@brampton.ca](https://www.brampton.ca/events@brampton.ca) پر 31 اکتوبر تک #BramptonCraftiestCostume2021 استعمال کرتے ہوئے پوسٹ کریں یا اس کو [events@brampton.ca](https://www.brampton.ca/events@brampton.ca) پر 31 اکتوبر تک

شام 8 بجے تک بذریعہ ای میل بھیجیں۔ جیتنے والے خوش نصیبوں کا اعلان 1 نومبر کو کیا جائے گا۔ شرکت کنندگان کی عمر لازمی طور پر 10 سال یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔

مقابلے کے اصول اور اہلیت کا معیار brampton.ca/recreation پر دیکھا جا سکتا ہے۔

اقتباسات

"مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے رہائشیوں کو اس سال دوبارہ ہیلوین منانے کا موقع میسر آ رہا ہے اور میں برامپٹن کے رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ تمام شہر میں پیش کی جانے والی اس حیرت انگیز تفریح سے بھرپور لطف اندوز ہوں۔ فرانٹ نائٹس سے کرافٹی کسٹیوم کانٹیسٹ، سے گریٹ پمکن پارٹی تک میں سب لوگوں کی دلچسپی کا بہت کچھ سامان موجود ہے۔ براہ کرم جشن منانے وقت ہماری کمیونٹی کی صحت اور حفاظت کو ذہن میں ضرور رکھیں۔ اور تمام رہائشیوں کے لیے – میں آپ سب ہیلوین کو بہت بڑی مبارک دینا چاہتا ہوں!"

– پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن مختلف کمیونٹیز پر مشتمل پھولوں کا ایک گلدستہ ہے اور سٹی آف برامپٹن اور ریجن آف پیلز ایکسیسیٹیٹی ایڈوائزری کمیٹیوں کے ایک رکن کی حیثیت سے، مجھے فخر ہے کہ ہماری کونسل نے ٹریٹ ایکسیسیٹیٹی پروگرام کی حمایت کے لیے ہمارے سائن بائی لاء میں ترمیم کی ہے۔ میں برامپٹن کے تمام رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ اپنے سامنے کے لان پر فخریہ طور پر قابل رسائی ہونے کا نشان واضح کریں اور ہماری کمیونٹی کے بچوں کے لیے ایک محفوظ، قابل رسائی اور جامع اور خوشیوں سے بھرپور ہیلوین کی خواہش کریں۔"

– پیٹ فورٹینی، ریجنل کونسلر، وارڈز 7 اور 8؛ ممبر سٹی آف برامپٹن ایکسیسیٹیٹی ایڈوائزری کمیٹی؛ ممبر ریجن آف پیلز ایکسیسیٹیٹی ایڈوائزری کمیٹی

"میں اس سال پمکن پارٹی کی دوبارہ واپسی دیکھ کر بہت خوش ہوں۔ برامپٹن ایک گرین سٹی ہے اور یہ تقریب رہائشیوں کو نہ صرف ایک بار پھر اپنی نقاشی کی شاندار مہارتوں کا مظاہرہ کرنے بلکہ ان کے کدوؤں کو کھاد بنا کر مناسب طریقے سے ٹھکانے لگانے کا موقع بھی فراہم کرتی ہے۔ کچھ شاندار انعامات جیتنے کے مواقع کے لیے کرافٹی کسٹیوم کانٹیسٹ میں بھی شرکت کرنا ہر گز نہ بھولیں۔"

– برکیات سنگھ، سٹی کونسلر وارڈز 9 اور 10؛ چیئر، کوآپریٹ سروسز، سٹی آف برامپٹن

"ہیلوین دوبارہ واپس آ گیا ہے اور اسی طرح ہماری دیگر بالمشافہ منائی جانے والی تقریبات، مثلاً فرانٹ نائٹس اور گریٹ پمکن پارٹی بھی واپس بحال ہو گئی ہیں۔ میں تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں کہ وہ محفوظ طریقے سے جشن منائیں، جسمانی فاصلہ بندی پر عمل کریں اور جب ایسا کرنا ممکن نہ ہو، تو ماسک ضرور پہنیں۔ ہیلوین، پورے برامپٹن کو مبارک ہو!"

– رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 لوگوں اور 75,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ www.brampton.ca پر انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے

میڈیا کنٹیکٹ

پرابجوت کینتھ
کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ
اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca